


دای کج سائھ چھٹائی



✎ Violet Otieno  
✉ Catherine Groenewald  
📧 Samrina Sana  
📄 4  
🗨️ | اردو | ur




**Global Storybooks**

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)


دای کج سائھ چھٹائی

✎ Violet Otieno  
✉ Catherine Groenewald  
📧 Samrina Sana



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>







اُڈونگو اور ایپیو شہر میں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔  
انہیں چھٹیوں کا انتظار تھا۔ نا صرف اس لیے کہ سکول بند  
ہو بلکہ وہ اپنی دادی کے گھر جا سکیں۔ وہ ایک بڑی ندی  
کے کنارے مچھلیاں پکڑی جانے والی گاؤں میں رہتی تھیں۔


- حیرت انگیز سیرتیں

ہرگز نہ کہ سچے سچے اور حیرت انگیز سیرتیں  
 ہرگز نہ کہ سچے سچے اور حیرت انگیز سیرتیں  
 ہرگز نہ کہ سچے سچے اور حیرت انگیز سیرتیں  
 ہرگز نہ کہ سچے سچے اور حیرت انگیز سیرتیں






اگلی صبح جلد ہی وہ اپنے ابو کی گاڑی میں گاؤں کے لیے  
روانہ ہوئے۔ وہ پہاڑوں، جنگلی جانوروں اور چائے کے  
پودوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے گاڑیاں گئیں اور گانے  
گائے۔




اُڈونگو اور ایپیو سکول واپس گئے، انہوں نے اپنے دوستوں  
کو گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچوں نے  
محسوس کیا کہ شہر کی زندگی بہتر ہے لیکن ان میں سے  
تقریباً سب نے اس بات کو ملنا کہ اُڈونگو اور ایپیو کی  
دادی بہت شاندار ہیں!






والد نے اُوڈونگو اور ایپیو کو اُٹھایا جب وہ گاؤں پہنچ گئے۔  
وہاں اُنہیں نیار کنیاڈا، اُن کی دادی درخت کے نیچے چٹائی  
پر آرام کرتی ہوئی ملیں۔ نیار کنیاڈا کا مطلب لو زبان میں  
کنیاڈا کے لوگوں کی بیٹی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور  
خوبصورت عورت تھی۔



جب اُن کے ابو اُنہیں لینے آئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔  
بچوں نے نیار کنیاڈا کی منت کی کہ وہ اُن کے ساتھ شہر  
چلیں۔ میں شہر کے لیے بہت بوڑھی ہوں اُس نے مسکرا کر  
کہا۔ میں تمہارا دوبارہ گاؤں آنے کے لیے انتظار کروں گی۔


۱۸۔ پھر کیا ہے؟


تو کہہ دے کہ سفر کے لئے  
اور ایشیا کو ایک جہاز  
شہر واپس لے کر آئے۔  
پھر یہی جہاز چلی  
اور پھر وہی جہاز  
اور پھر وہی جہاز




۱۷۔ پھر کیا ہے؟

پھر یہی جہاز چلی  
اور پھر وہی جہاز  
اور پھر وہی جہاز  
اور پھر وہی جہاز  
اور پھر وہی جہاز  
اور پھر وہی جہاز





تحفے کھولنے کے بعد نیا رکنیاڈا نے اپنے پوتے اور پوتی کو  
روایتی انداز میں دُعا دی۔




دن کے ختم ہونے پر اُنہوں نے مل کر چائے پی۔ اُنہوں نے  
کھلائے ہوئے پیسوں کو گنے میں اپنی دادی کی مدد کی۔



تہ ذی شہادتہ کی

اور اس کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہادتہ اور شہادتہ کی





تہ ذی شہادتہ کی

اور اس کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہادتہ اور شہادتہ کی


تہ ذی شہادتہ کی

اور اس کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہادتہ اور شہادتہ کی





وہ درخت پر چڑھے، اور ندی میں پانی اُڑایا۔





ایک صبح اُوڈونگو اپنی دادی کے ساتھ گائیں کو چرانے لے گیا۔ وہ ہمسایوں کے باغچے میں بھاگ گئیں۔ کسان اُوڈونگو سے کافی غصہ تھلا۔ اُس نے اُسے گائیں کے فصلیں کھانے پر بہت دھمکایا۔ اُس دن کے بعد اُس نے یقینی بنایا کہ گائیں دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنسیں۔

- استه جيڪو ڪو به ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن  
 ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن  
 ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن




- ڪو به ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن  
 ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن ڪم ڪري ٿو ان جا ڀاءُ ڀائرن





اگلے دن بچوں کے ابو بچوں کو نیار کنیاڈا کے پاس چھوڑ  
کر شہر کے لیے واپس آگئے۔



اُوڈونگو اور ایپیو نے گھر کے کلاموں میں اپنی دادی کی  
مدد کی۔ وہ پانی لاتے، آگ کے لیے لکڑی لاتے۔ انہوں نے  
انڈے اور چوزے اکٹھے کیے اور باغیچے سے سبزہ چنا۔